


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 1723/2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	30/11/2022	<p>The appeal of Mr. Umer Rehman presented today by Mr. Khalid Khan Mohmand Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at Swat on _____. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p style="text-align: right;">By the order of Chairman</p> <p style="text-align: center;"> REGISTRAR</p>

(6)

**BEFORE THE HON'BLE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR**

Service Appeal No. 1723/2022

Umer Rehman Ex-FC No.5605, District Bunir.....Appellant

Versus

**Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
& Others.....Respondents**

INDEX

S#	Description of Documents	Annex	Pages
1.	Service Appeal		1-6
2.	Affidavit		7
3.	Copy of CNIC	A	8
4.	Copies of order dated:24.06.2021 and FIR No.145 dated:09.04.2021	B&C	9-11
5.	Copies of order dated:08.02.2022 of Respondent No.03 along with departmental appeal, order dated:04.11.2022 of Respondent No.02 along with Revision petition	D&E	12-16
6.	Copies of PW-03 & 04 statements	F&G	17-20
7.	Copies of Nikah Nama, application US 249-A Cr.PC dated:19.01.2022 and order dated:24.01.2022 of the learned Senior Civil Judge, Bunir	H,I & J	21-28
8.	Wakalat Nama		29

Through **Appellant**

Khalid
**Khalid Khan Mohmand
&
Haider Ali
Advocates, High Court
Peshawar**

Cell#0315-9322230

- 0344-9167431

Email: *Haider Ali*
Khalidshenari123@gmail.com

1

BEFORE THE HON'BLE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

Service Appeal No. 1723 /2022

Umer Rehman Ex-FC No.5605, District Bunir

...Appellant

Versus

1. *Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar*
2. *AIG Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar*
3. *Additional Inspector General of Police Elite Force, KPK, Peshawar.*
4. *Deputy Commandant Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar*

.....Respondents

**APPEAL U/S 4 OF THE KHYBER
PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
ACT, 1974 READ WITH ALL ENABLING
PROVISIONS OF LAW GOVERNING THE
SUBJECT AGAINST OFFICER ORDER
NO:6617-EF-DATED:24.06.2021 OF
RESPONDENT NO.04 VIDE WHICH
APPELLANT HAS AWARDED MAJOR
PENALTY OF DISMISSAL FROM
SERVICE, ORDER NO.1303-EF,
DATED:08.02.2022 OF RESPONDENT**

2

NO.03 VIDE WHICH DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT AGAINST THE ORDER DATED:24.06.2021, HAS BEEN REJECTED AND ORDER NO.2414 DATED:04.11.2022 OF RESPONDENT NO.02, VIDE WHICH REVISION PETITION OF APPELLANT AGAINST THE BOTH AFOREMENTIONED ORDER, RESPONDENT NO.03 & 04 WAS TURNED DOWN.

Prayer in Appeal:-

On acceptance of this appeal, impugned order dated:14.06.2021 (Respondent No.04), & 08.02.2022 of Respondent No.03 and 04.04.2022 of Respondent No.02 may kindly be set aside and appellant be re-instated in service with all back benefits.

Respectfully Sheweth:

Brief Facts:-

1. ***That the appellant is law abiding and peaceful citizen of Pakistan and permanently resident of District Bunir. (Copy of CNIC is annexed as Annexure "A").***
2. ***That appellant being qualified, was in-listed as constable (Elite Force) in KPK, police department by the competent authority by the order***

(3)

dated:08.10.2008 and since then till issuance of impugned order dated:24.06.2021.

3. That appellant has unilaterally been dismissed from service by respondent No.04 vide order dated:24.06.2021, without fulfillment legal/codal formalities i.e charge sheet, regular inquiry and show cause notice etc on the sole ground of dismissal from service, on the basis of false/fabricated FIR No.145, dated:09.04.2021 Under Section 496-A PPC Police Station Swarit City Bunir. **(Copies of order dated:24.06.2021 and FIR No.145 dated:09.04.2021 are attached as Annexure "B" & "C").**
4. That appellant aggrieved from aforementioned order preferred departmental appeal against the order dated:24.06.2021 but was rejected by respondent No.03 by the order dated:08.02.2022, eventually he approached the respondent No.02, through filed Revision petition, dated: 7-021 however, the same was rejected vide order dated:04.11.2022. **(Copies of order dated:08.02.2022 of Respondent No.03 along with departmental appeal, order dated:04.11.2022 of Respondent No.02 along with Revision petition are annexed as Annexure "D" & "E").**
5. That appellant being aggrieved of aforementioned orders approaches, this Hon,ble Tribunal for re-

instated with service, with all back benefits inter alia on the following grounds:-

GRUNDS:

- A. *That impugned orders dated:24.06.2021, 08.02.2022 and 04.11.2022 of Respondents No.02 & 03 and 04 against the law and peculiar facts of the case of appellant, hence carry no legal formality.*
- B. *That the local police of police station Swarti City Buner, incarcerated the appellant in case FIR No.145 dated:09.04.2021 under section 496-A PPC, on the strength whereof impugned order of dismissal from service has been issued without either affording opportunity of proper hearing of conducting regular inquiry into his guilt, hence has been condemned unheard which attracts the doctrine Audi Alterm Partem.*
- C. *That the appellant was charged by complainant (Ameer Zada S/O Ghulam Habib) in case FIR No.145, under section 496-A PPC for abduction of her daughter, wherein the complainant appeared as PW-3 recorded his statement in favour of the appellant and exonerated of the appellant in the above mentioned charges on the basis of compromise. **(Copies of PW-03 & 04 statements attached as Annexure "F" & "G").***
- D. *That the daughter of complainant/abductive also appeared and produced Nikah Nama and declared appellant as her husband. However the appellant filed*

(5)

an application under section 249-A Cr.PC, for acquittal on the said application of the appellant was allowed, vide order dated:24.01.2022 the appellant was acquitted from the charges leveled against him. (Copies of Nikah Nama, application US 249-A Cr.PC dated:19.01.2022 and order dated:24.01.2022 of the learned Senior Civil Judge, Bunir attached as Annexure "H", "I" & J").

- E. That respondent department has no lawful authority to punish appellant for no wrong, rather they are duty bound to treat him in accordance with law and to provide him equal protection of law but, the respondent department instead of follow the law/rules on the subject, issued the impugned order which has caused grave miscarriage of justice.*
- F. That respondent No.04 was duty bound to pass appropriate order in pursuance of recommendations of inquiry officer but astonishingly the impugned order has been passed, in utter disregard, not only to the law/rules governing the subject but also to the recommendation of inquiry officer, which speaks volumes on malafide on his part.*
- G. That any other ground will be raised at the time of arguments with the prior permission of this Hon'ble Tribunal.*

6

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of this appeal, impugned orders dated:24.06.2021, 08.02.2022, and 04.11.2022 of the respondents may be set aside and appellant may be re-instated in service with all back benefits.

Any other relief no specifically prayed for and deemed appropriate by this Hon'ble Tribunal in circumstances of the case, may also be granted for the best administration of justice and fair play.

Through Appellant

Khalid

***Khalid Khan Mohmand
&
Haider Ali
Advocates, High Court
Peshawar
Cell#0315-9322230***

Haider Ali

Dated:

VERIFICATION:-

It is to certify that no appeal has been submitted on the subject earlier to the instant appeal.

John

DEPONENT

7

BEFORE THE HON'BLE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR

Service Appeal No. _____/2022

Umer Rehman Ex-FC No.5605, District Bunir.....Appellant

Versus

Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar
& Others


.....Respondents

AFFIDAVIT


*I, Umer Rehman Ex-FC No.5605, District Bunir , do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the accompanying **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.*

Umer

DEPONENT
CNIC#15101-1069681-1
Cell# _____



~~ATTESTED~~



ANNEX "A" (8)

ANNEX B



9

Office of the Deputy Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

Date: 24/06/2021

No. 6617-25/EF

ORDER


This order will dispose of the departmental proceedings against Constable Umer Rehman No. 5605, (Platoon No. 104) of District Police Bunir now on deputation to Elite Force Khyber Pakhtunkhwa.

He was charged in case FIR No. 145, dated 09.04.2021 U/S 496-A PPC PS Swari City Bunir and also remained absent from lawful duty without any leave or prior permission w.e. from 06.04.2021 to 14.04.2021 (Total 08 days).

In this regard he was suspended and Charge Sheet along with summary of Allegations were issued to him by this office vide No. 3442-48/EF, dated 13.04.2021 and Acting DSP Elite Force Malakand was appointed as enquiry officer. The Enquiry Officer conducted the enquiry proceedings and submitted his report that the defaulter official has established illicit relationship with his brother wife and Mis. Nihar Bibi recorded her statement that she want to marry with him. Their CDR was perused which shows both were in contact and developed relation, which is against the islami shariat and pashtoon culture. The brother wife is just like a sister and his that act is non islamic, ill disepined and illegal. The Enquiry Officer has recommended that his absence period may be treated as leave without pay and enquiry against him may be kept pending till the decision of court.

Therefore, I, Muhammad Hussain, Deputy Commandant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority, impose major penalty of DISMISSAL from service upon the defaulter Constable under Police Rules 1975 (amended 2014)..

However, his absence period i.e 08 days is treated as leave without pay.
Order announced!


(MUHAMMAD HUSSAIN) PSP
Deputy Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa
Peshawar.

Copy of the above is forwarded to the:-

1. District Police Officer, Bunir for information.
2. Superintendent of Police, Elite Force HQrs: Peshawar.
3. Acting Deputy Superintendent of Police, Elite Force Malakand Region.
4. Supdt: Accounts, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
5. RI Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
6. W/O ASI/SRC, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
7. PMC Elite Force along with complete enquiry file Enls: (35) pages.

~~ATTESTED~~

دفتر ام حماؤ نیار کی منتگنی عدہ ۲۰ سال قبلہ میں

وہ قریش سے نادرگی تے ساؤ جو عدت قی نامی کیسے اللہ

عودی غلبہ میں ہے رشتہ چونکہ کعبہ سبحہ اللہ تعالیٰ عدہ تا

بھی حمار گھ آنا جاتا ہوا۔ جن کا دفتر ام حماؤ نیار تے ساؤ

فلسا تے نا جانے ہوا ہوش۔ آج میں نورا ما بازار میں موجود ہے جو

10:30 بجے انکساری علی آج دفتر ام حماؤ سے خود سے نقل کرنا ہوا ہے

جا چیل ہے۔ ایسے پہلی میں کھیل کر رہا ہوں۔ لہذا یہی نقل کرنا ہوا ہے

دعویدار کھاروں گا۔ امداد اللہ پر زیاہوں غور ہونے لگا نا انکساری جاری ہے

سب کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

قریشوں سے ہونے لگا۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

عدہ سے ہوا تو گئے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

زیادہ تر کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

سوال کیا کہ حواں سے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

نقل کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

ASL-P-021 09-04-021

دوستانہ طور پر لکھی گئی ہیں۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

اس کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ بات یاد دلا سکیں۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

یہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

اگر کوئی سوال ہو تو براہ کرم مطلع کریں۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

یہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

اطلاعات کے لئے اطلاع دہندہ کا نسخہ ہوگا یا اس کی ہر بات کا ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور اس پر تحریر کنندہ ابتدائی اطلاع کا نسخہ بطور تصدیق ہوگا۔ اور حروف الفبا کی ہر رخ روشائی سے بالاتر

ایک لفظ یا جملہ کی ترتیب واسطے پانچ لفظوں کی علامت غیر واسطہ ایسی ہے۔ اور ان لفظوں کے ہر رخ و رخائی سے بالاتر

یہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔ اور یہ کچھ دیکھنے لگے۔

ANNEX 10

Office of the Deputy Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar



No. /EF

Dated: 08/02/2022

12

ORDER

This order will dispose of the appeal submitted by Ex-Const: Umer Rehman No. 5605 against his major punishment of dismissal from service awarded to him by Deputy Commandant/Elite Force on 21.12.2020 vide order No. 15739-47/EF.

Brief facts of the case are that;

He was charged in case FIR No. 145, dated 09.04.2021 u/s, 496-A PPC, PS Swari City, Buner and also remained absent from lawful duty without any leave or prior permission w.ef. 06.04.2021 to 14.04.2021 (Total: 08 days).

Subsequently, he was issued Charge Sheet & Summary of Allegations and Acting DSP/Elite Force, Malakand region was nominated as enquiry officer and after going through all the proceedings the enquiry officer reported that the delinquent official had illicit relationship with the wife of his brother and their CDR was also checked which showed that both were in contact and had developed relationship. The enquiry officer recommended that his enquiry may be kept pending till final outcome of court under Police Rules Chapter-16, Para-02(II).

Hence, the Deputy Commandant/Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa keeping in view all the facts and circumstances imposed major punishment of dismissal from service.

Now, he has preferred the instant appeal for re-instatement into service before the Addl: IGP/Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

The undersigned being competent authority keeping in views the situations and circumstances of the case called him in OR but he could not offer any cogent reason for his involvement in such like immoral activities. Being a member of discipline force he earns a bad name for the Department and he acquitted through family compromise, hence, his appeal is hereby rejected and there is no place of such like person in the department.

Order announced!

(MUHAMMAD WISAL FAKHARSULTAN)PSP
Addl: IGP/Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 1303-1308 /EF

Copy of above is forward for information and necessary action to the:-

1. Superintendent of Police, HQrs: Elite Force, Peshawar.
2. RI/Accountant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. S.R.C/FMC/OASI, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
4. Ex-FC Umer Rehman No. 5605, through Reader DSP/ HQrs Elite Force Peshawar.

signature

~~ATTESTED~~

بصورت جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس ضلع خٹونخواہ

جناب عالی!

عاجز انہ التماس کی جاتی ہے کہ میں صوبہ عمر رحمان ولد رحمان قہر نیر ساکن ناوائی سال 2008ء میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا اور عرصہ (13) سال نوکری نہایت امانتداری، لگن اور جانشانی سے سرانجام دی اور کبھی بھی اعتراض بالا کو سزا کا موقع نہیں ملا۔ 2010ء کے سوانح اپریل میں کھوپور صحت لیا اور عوام کی جان واد اور وطن عزیز کی اعز کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر کھوپور ٹریفک سے ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا۔ شہرے خلاف ٹھکانہ سٹی سوارٹی بونیر میں مقدمہ درج رجسٹر ہوا جو کہ سری شادی لیسری محمدی مسماہ بہاری بی کساکھ ہوئی تھی اور مسماہ بہاری بی کو میں لیسندھا۔ لیکن انکے والدین راضی نہیں تھے اور چٹون کلچر کے ناطے ان کو نیر نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جو کہ غیر قانونی اور غیر شرعی کام نہیں ہے۔ اور لیسندگی شادی قانون اور شریعت کے لحاظ سے جائز ہے۔ لیکن اسکے برعکس مسماہ بہاری کے والد اصرارہ نے عدیہ خلاف مقدمہ درج رجسٹر کر کے میں نے عدالت سسٹن سے BBA کر کے ٹھکانہ میں لفتیش انسرو کو نکاح نامہ اور پروانہ BBA میں کر کے اسکے علاوہ مسماہ بہاری بی نے بھی عدالت کے روبرو بیان دیا۔ کہ ہم دونوں نے لیسندگی شادی کی ہے۔ مقدمہ میں لفتیش مکمل ہونے کے بعد عدالت میں دوران سماعت عدالت نے جج باعزت طور پر بری کر دیا۔ میں نے کوئی غیر قانونی اور غیر شرعی کام نہیں کیا ہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے۔ جو کہ محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث ہے۔ بذریعہ درخواست عاجز انہ التماس کی جاتی ہے کہ من سائل کو محکمہ پولیس میں بحال کرنے کا حکم صادر فرما کر سائل باصابت و عاگور ہے گا۔

عمر رحمان ولد رحمان قہر نیر ساکن ناوائی ضلع خٹونخواہ

0345-4504321

موبائل نمبر :-

15101-1069681-3

CNIC نمبر :-

ATTESTED

14

This order is hereby passed to dispose of Revision Petition under Rule 11-A of Khyber Pakhtunkhwa Police Rule-1975 (amended 2014) submitted by Ex-FC Umer Rehman No. 5605. The petitioner was dismissed from service by Deputy Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar vide order No. 6617-25/EF, dated 24.06.2021 on the allegations that he was charged in case FIR No. 145, dated 09.04.2021 u/s 496-A PPC Police Station Swarit City Buner and also remained absent from duty w.e.f 06.04.2021 to 14.04.2021 for 08-days. His appeal was rejected by Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar vide order Endst: No. 1302-09/EF, dated 08.02.2022.

Meeting of Appellate Board was held on 27.10.2022 wherein petitioner was heard in person. Petitioner contended that he was acquitted u/s 249A Cr.PC by the court of Senior Civil Judge, Buner vide judgment dated 24.01.2022.

Perusal of enquiry papers revealed that the allegation against the petitioner was proved during enquiry. He has brought a bad name for Police Department. His conduct was detrimental to discipline and his further retention in Police is bound to negatively influence discipline of other personnel of the force. He was acquitted on compromise basis. During the proceedings, he could not submit solid evidence of his innocence. The Board see no ground and reasons for acceptance of his petition, therefore, the Board decided that his petition is hereby rejected.

Sd/-

(MUHAMMAD ALI BABAKHEL) PSP
(UNPM, NSWC)Additional Inspector General of Police,
HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.No. S/ 2614-20 /22, dated Peshawar, the 4-11 /2022.

Copy of the above is forwarded to the:

1. Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Deputy Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar. One Service Roll and one enquiry file (50-pages) of the above named Ex-FC received vide your office Memo: No. EF/SRC/S.Record: 2764, dated 11.03.2022 is returned herewith for your office record.
3. PSO to IGP/Khyber Pakhtunkhwa, CPO Peshawar.
4. AIG/Legal, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
5. PA to Addl: IGP/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
6. PA to DIG/HQrs: Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
7. Office Supdt: E-IV CPO Peshawar.

(IRFAN ULLAH KHAN) PSP
AIG/Establishment,For Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

o/c

ATTESTED

15

Before the Additional Inspector General of Police, Elite Police Force of the KP Province, Office at Peshawar.

Umer Rehman No. 5605, {Platoon No. 104}.

District Police Buner &

R/o Village Nawagai, Tehsil Mandanr,

District Buner.....[Appellant]

Subject : Department Appeal u/s 11 of the Police Rules 1975 [Amended 2014] against order of dismissal from service of the appellant passed by the learned Deputy Commandant, Elite Force Khuber Pakhtunkhwa Peshawar No. 6617-25/EF Dated 24/06/2021.

Very respected sir,

The appellant submits as follows:-

1. That he was serving as a has been dismissed from service vide the impugned order passed by the learned Deputy Commandant, Elite Force of KP Province Peshawar of dated 24/06/2021.
2. That the impugned order [Copy attached] is against law and facts and therefore is liable to be set aside inter alia on the following grounds amongst other:-
 - i. That appellant is innocent and charges leveled against him have never been proved.

~~ATTESTED~~

16

16

- ii. That enquiry report and summary of Allegations as mentioned in Charge Sheet No. 342-48/EF dated 13.04.2021 are being unfounded and baseless.
- iii. That trial of the appellant's case has not been concluded as yet and prosecution case is full of doubts.
- iv. That Enquiry Report is based on surmises and appellant has not been given a fair opportunity to place his defense. Appellant has been condemned unheard.
- v. That Order of Dismissal from Service of the appellant has no foundation and the same is against law and facts.
- vi. That the prosecution story is one sided and there is no proof of involvement of the appellant in commission of the offence.
- vii. That authority has exercised his powers without applying a judicial mind, even Enquiry Officer had not recommended the punishment as announced by the Authority.

In light of the above mentioned facts and circumstances, it is humbly prayed that, On acceptance of the instant, all allegations and enquiry report may be declared as null & void and similarly, the impugned order of Dismissal from Service may kindly be set aside, and appellant may kindly be reinstated back in service.

Any other relief, which is based on justice may be passed in favor of the appellant please.

Appellant



[UmerRehman].

Dated: ____ /07/2021.

ATTESTED

۰۳ پی سی

19.01.2022

17

بیان آ میرزادہ ولد غلام حبیب سائن وارڈی دیر

حالات پر حالے بر حالے لوہین

X _____ X

میر حیات بیان کیا کہ مرض 07.04.2021 کو اپنی بیٹی سماعتہ بیمارہ کی گورنمنٹ ہسپتال میں داخل کیا گیا اور وہیں سوارڈی سے بیگنہ گزری تھی۔ میری بیٹی کی منگنی تقریباً دو سال قبل مہی سمیع اللہ ولد قمر شمس سائن ناواٹنی کے ساتھ ہوئی تھی۔ مذکورہ سمیع اللہ بیروت میں مقیم تھے۔ مذکورہ سمیع اللہ کے ساتھ بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت ام کی تاحال رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مذکورہ سمیع اللہ کی بہن مہی عمر رخصت کے ساتھ حضرت ام نے ناجائز تعلقات استوار کرنے کے لیے اطلاع ملی کہ حضرت ام مذکورہ عمر رخصت کے ساتھ 2 سالہ گورنمنٹ ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں۔ لہذا ان میں سے منگنی و تعدد کے لیے یوں ہے کہ حضرت ام کو عمر رخصت و لہ عمر رخصت نے ناجائز تعلقات کی بنا پر رخصت کے خلاف ورنہ ایسا ہوا کرتا ہے۔

میں مذکورہ عمر رخصت کے خلاف دعوہ نہیں کروں۔

Nadia Gul Wazir,
Senior Civil Judge (JUCI) AQ,
Buner at Daggar.

یہ درست ہے کہ میں دعوہ کا واضح دعوہ نہیں کروں۔

TRUE COPY
EXAMINER
Buner District Court
Buner at Daggar

XX: یہ بھی درست ہے معافہ طور پر شایعین زوجہ ام بی
 و تو یہ آئی صحت دینے کے لئے مدعیہ کو اس کے لئے شہر دیہ گواہ
 کا ذکر نہیں کر چکا ہے۔ یہ درست ہے ہم فریقین کے مابین
 عداوت مشران خانی طور واضح نامہ سرخط ہے اور
 عداوت عفو منظم کو بری کرنا نہیں تو ہمیں کوڑا متراضا
 نہ ہوگا۔ یہ درست ہے کہ دفتر ام معافہ تیار نے سالتہ
 شوہر سمیع اللہ سے بزرگ عدالت ڈری شیخ خطا حاصل
 آئی ہے۔ یہ درست ہے کہ دفتر ام نے حافظہ منظم کے نکالے
 کیا ہے اور اب وہ لوگوں کے مابین بیوی آباد ہیں۔

سن کر درست تسلیم کیا۔

19.01.2022

نadia Gul Wazir,
 Senior Civil Judge (Judicial),
 Buner District Court
 (تاریخ) / 19
 B

TRUE COPY

EXAMINER
 Senior & Senior Justice Buner
 Authorized under 167 of
 P.O. No. 10 of 1989

PW.04

19.01.2022

(19)

بیان صماۃ شاہین زوجہ امیرزادہ بہ نمبر 47/481-ل
تاریخ برکے وضع یو این

بر حلف بیان کیا کہ بروز وقوع میری بیٹی زینب بہتر
6/7 سال کو شریہ بھجوا رکھی۔ میں نے مذکورہ کو BHU جسٹس
برائے علاج منطاب لے کر لئی تھی۔ جیسا کہ نیرمذکورہ کا علاج منطاب
ہیٹال میں جاری ہے اسے اس وقت میں خاوندہ ام نے بہتر لیم ہو جانے
فون اطلاع دی ہے کہ دختر ام صماۃ نیار بی بی کو فون سے منطاب
پہ معلومات کرنے میں پوری طور پر کو فون لیم منطاب زینب

Nadimul Wazir,
Senior Civil Judge (Judicial Officer),
Buner at Dabgor.

رہائے ہوئی۔ خاوندہ ام سواڑی بازار کو کسی کام کے سلسلے میں سواڑی
مناسبت سے اس بڑے سیر سے معلومات کے اس دوران
دختر ام سلو کے بی بی نے بھی کہا ہے وہ اپنے دیو عمر رهن نے اپنے
ساتھ نیر لیم سوٹر سائیکل سوار کرتے لے گئی ہے۔ بعد از کسٹی و معلومات
کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ دختر ام نیار بی بی جس کی سمیع اللہ سے نکاح
ہر چکی ہے کہ دیو رهن عمر رهن ولد سید قمر لیس سائن ناواچی نے فاجاز
تعلقات دستاویز رجن کے خاطر اخوان کی ہے۔ میں عمر رهن

TRUE COPY

EXAMINER

Senior Civil Judge (Judicial Officer),
Buner at Dabgor.

مذکورہ کے خلاف دعویٰ راہ یوں -


XX: - میں وقوع کا صحیح گواہ نہیں ہوں۔ یہ درست ہے کہ
 بروز وقوع سماج سلوی سکول میں تھی۔ یہ درست ہے کہ ہمارے
 مابین بجاہلت شرکاء کے اجراءے راہمانہ سوانح اثر
 عدالت فقور ملزم کو بری کرنے کو نہیں کوئی اعتراض
 نہ ہوگا۔

میں درست قلم کیا۔

19.01.2022

نادیہ گل وزیر
 Nadia Gul Wazir,
 Senior Civil Judge (udh) AQ,
 Bahar at Daggan.
 (Secy) B

TRUE COPY
 EXAMINER
 District & Sessions Judge Bahar
 Bahar at Daggan (AQ)
 20.01.2022



ANNEX H

21

یاقیم یونیر ضلع یاتی حکومت

Date: 1-11-2019 S/No 29

خطبہ نکاح

الحمد لله الذي جعل النكاح سنة الاسلام والصلوة والسلام على سيد الانام وعلى اهلته واصحابه الغزاة الكرام
فقد قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهارث منهما رجالا كثير او نساء
وفال النبي عليه السلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

نام بہن نیپار جوبی شناختی کارڈ نمبر

ولدیٹ آمیر ذاردہ شناختی کارڈ نمبر 15702-2484011-5

پتہ جیل روڈ ڈاکٹر وارثی تحصیل وارثی ضلع آسر ڈارو

نام لہیا سمیع الرحمن شناختی کارڈ نمبر 15101-8416932-3

ولدیٹ رحمان نمبر شناختی کارڈ نمبر 15101-9071726-1

پتہ سید ملک آباد ضلع لوئیہ تارخ نکاح 01/05/2019
تشریح سید کوٹہ سورت اور کورہ سدھان

نکاح خواں سادات ضلع لوئیہ ولدیٹ عسکری خان دشتقا خیل

شناختی کارڈ نمبر 15101-0277898-3 پتہ ڈیڑھ گلی تحصیل ڈیڑھ گلی ضلع لوئیہ

گواہان

(1) نام محمد رحمان ولدیٹ محمد سعید

شناختی کارڈ نمبر 15101-0403539-7 دشتقا محمد رحمان

(2) نام فیض اللہ خان ولدیٹ حبیب خان

شناختی کارڈ نمبر 15101-0338784-9 دشتقا فیض اللہ خان

NIKAH REGISTRAR
Mulana Muhammad Akbar
NIKAVCMulana Muhammad Akbar
0333-9693006
Mulana VC MDate of issue 29/11/2019
0333-9693006
Date

دشتقا دمہر نکاح رجسٹرار

ATTESTED

اقرار نامہ

سید امیر ذادہ عاصمہ بیگم نواز خان کراچی - کہ یقین کو کہ سونا اور کمرے کا فریڈ پین اور
سامان وغیرہ 3 لاکھ کے ذمے میں ہوگا ؟

گواہ ① عمر رحمان ولد رحمان فرید

سید امیر ذادہ

شناختی کارڈ نمبر 15/01-10686813

گواہ ②

18/1/2015


صالحہ رحمان ولد سیدی رحمان 15/01-94900083

③ ایشیائی طرز عمر ذہان 15/01-5404003-3

~~ATTESTED~~

النكاح من سنتي
(الحديث)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا هَذَا مِنْ فَضْلِهِ



رجسٹریشن نمبر 4949
مسلم نامہ آئی قوانین کے آرٹیکلز 1961 (1961) کے تحت وضع کیے
ہوئے قواعد کے تحت نمبر 18 اور نمبر 10 کے تحت نمبر 10 کی تصدیق کی جاتی ہیں
الحمد لله الذي جعل النكاح سنة الاسلام والصلوة
والسلام على سيد الانام وعلى اله واصحابه العز الكرام
يا ايها الناس اتقوا الله فان الله شديد العقاب وان اتقوا الله
فان الله يوفى الصالحين اجورهم و الله اعلم بالصواب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج من غيري لم يمسسني الحديث

دولہا کا نام _____ والد کا نام _____ زمین کے پتے _____
دولہا انگریزی _____

قومی شناختی کارڈ نمبر _____ - 10696843-10101-1
عمر تاریخ پیدائش _____

پتہ _____
خاتون کی صوبہ لوئیئر _____
دولہا کا نام _____ والد کا نام _____

قومی شناختی کارڈ نمبر _____
پتہ _____
آبادیوں کو توری ہے یا بیوہ ہے یا ملحقہ _____

نکاح کے گواہان _____
گواہ نمبر 1 نام _____ ولدیت _____
خان گل صاحبہ


قومی شناختی کارڈ نمبر _____
گواہ نمبر 2 نام _____ ولدیت _____
بلال رضا

قومی شناختی کارڈ نمبر _____
نکاح سرانجام پانے کی تاریخ _____
15602-0324891-3

نکاح خواں نام معہ ولدیت _____
قومی شناختی کارڈ نمبر _____
15101-981786-9

نکاح درج رجسٹر کرنے کی تاریخ _____
15101-981786-9

نکاح رجسٹر کے دستخط اور نمبر _____
15101-981786-9



ATTESTED

ANINEX
محکمہ خزانہ - سندھ ہائی کورٹ
محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

(24)

0-12
19.05.2022
نمبر 18

جسٹس (ج) ایچ ایم
496A/2021
9/221
145

Nadia Gul Wazir,
Senior Civil Judge (Judicial),
Buner at Daggor.

عنوان :- درخواست زیر التماس
249A/2021

محمد رفیق الدین ولد محمد رفیق
محمد رفیق الدین ولد محمد رفیق

ضابطہ عدالت سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

TRUE COPY

EXAMINER
District & Session Judge Buner
Authorized under 157 of
R.O. No-10 of 1961

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

محکمہ خزانہ سندھ ہائی کورٹ

TESTED

Amir Khan
Advocate at Large
District & Session Judge
No. 10 of 1961

ANNEX - J

(25)

۹۵
۲

حکم نمبر ۱۲ :- ملزم برصمانت حاضر شہادت دیا اور اسے استثناء میں
سرکار قلندر شہر۔ اس موقع پر وکیل ملزم نے درخواست زبردستی

۲۴۹ ضلع قزاقی سے اس کا نوٹس وکیل منشیہ ادر

وکیل سرکار کو دیا گیا۔ برائے جہت زبردستی مرفوع

۲۴.۰۱.۲۰۲۲
Nadia Gul Wazir,
Senior Civil Judge (Judicial),
Buner at Daggan.

ORDER-13
24.01.2022

Learned APP for state, complainant in person & accused on bail present. This order is directed to dispose of the instant case FIR u/s 249-A Cr.PC.

Brief facts of the instant case are that on 07.04.2021 at about 11:30 hours complainant reported the matter to local police that Mst. Nihar Bibi is his daughter and some 02 years ago, she was engaged with Samiullah. That the said Samiullah who is abroad in Saudi Arabia and after engagement/nikah, the accused/Umar who is the brother of said Samiullah used to visit the house of complainant. That some illicit relationship got developed between said Umar and his daughter Mst. Nihar. That on the day of occurrence at 10:30 hours, he was informed that his daughter/Mst. Nihar Bibi had gone out of his house and has

Nadia
Nadia Gul Wazir,
Senior Civil Judge (Judicial),
Buner at Daggan.

TRUE COPY

J. J. J. J. J.

24.01.2022

0-13
Court.

gone to Nawagai with the accused/Umar. Resultantly, the report of complainant was lodged in shape of Mad no. 18 and instant FIR was got registered against the accused.

After submission of challan, accused was summoned, charge was framed to which he denied and claimed trial. Thereafter, statement of as many as 04 witnesses were recorded and thereafter, accused filed application in hand for his acquittal u/s 249A Cr.PC.

Arguments heard and record perused.

Section 496-A PPC comes into play only when someone takes away any woman with intent to have illicit intercourse during lifetime of her husband. Though complainant stated that nikah of Mst. Nihar Bibi was performed with Samiullah, however, complainant/PW-03 during examination in chief admitted that only engagement ceremony of Mst. Nihar Bibi was performed and rukhsati was not affected between them. From the contents of FIR, it further transpires that complainant himself stated that only the engagement of his daughter was performed with Samiullah. In law, Nikah is marriage, it is the most common way of marriage in Islam. It is the legitimate contract signed by the bride and the groom before entering the marriage with their acceptance. Engagement is called Khitba in Arabic. It simply implies that the man has promised to marry the girl. Engagement is the pre-stage of marriage and nikah is the final marriage. Engagement is the period between proposal and

Nazir
Nazir Gul Wazir,
Senior Civil Judge (Retd.)
Buner at Daggar.

TRUE COPY.

Nazir
EXAMINER
District & Sessions Judge Buner
Authorized to act in 1st of
20 No. 10 of 1984

7

27


0-13
Cont.


marriage. Engagement may break off, but it will not be considered as marriage. A woman after breaking engagement can marry the one, she wants. But breaking marriage leads to divorce.

PW-03/complainant admitted during his cross examination that neither he nor his wife is the eye witness of the occurrence. PW-03 further admitted in his cross examination that Nikah of Samiullah and his daughter has been dissolved through Court decree and now accused and his daughter is living as a married couple. PW-03 and PW-04 (parents of abductee) during their cross examination also admitted that they have entered into compromise with the accused and they have no objection upon acquittal of the accused.

The person with whom allegedly the first *nikah* was performed also never appeared before the court. It has not been established on record that before marrying with the accused Umar, Mst. Nihar was married to someone else and that accused took the Mst. Nihar for having illicit intercourse. Case of prosecution is full of doubts.

In the light of above-mentioned observations, there is no chance of conviction of accused if whole of the evidence be recorded, therefore, by exercising powers u/s 249A Cr.PC, accused facing trial is hereby acquitted from the charges levelled against him. He is on bail, his bail bonds stand cancelled and sureties are absolved from the liabilities under the bail bonds.


Nadia Gul Wazir
Senior Civil Judge (Jury) Buner
Buner at Daggpur.

TRUE COPY

EXAMINER
District & Sessions Judge Buner
Authorized under 187 of
R.O. No. 11 of 1984

28

Suit No 45/2 of 2021
The State VS Umar Rehman.
FIR No. 145 of 2021 u/s 494-A PPC PS City Sowari.

0-13
cont.

Case property be dealt in accordance with law. Case file be
consighed after its necessary completion and compilation.

ANNOUNCED
24.01.2022



Nadia Gul Wazir
NADIA GUL WAZIR
SCJ/AIQ/Judicial Magistrate
Buner at Daggar


Nadia Gul Wazir,
Senior Civil Judge (Jud)/AIQ,
Buner at Daggar.

TRUE COPY

Nadia Gul Wazir
NADIA GUL WAZIR
Senior Civil Judge (Jud) Buner
Buner at Daggar

CD No: 5816
Date of Application 16-11-22
Date of Receipt of File 29-01-22
Date of Preparation 16-11-22
Date of Notice -
Words 52P
Fees Free of Cost.
Urgent Fees -
Date of Delivery 16-11-22
Signature *[Signature]*

بعدالت صبا - مہر و مہر پورہ K P سہ ماہی



محمد رحمن بنام 2 پنجاب
مہر و مہر پورہ

موزعہ
مقدمہ
دعویٰ
جرم

باعث تحریر آئنگے

دیکھو

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی و کل کارروائی متعلقہ
آن مقام محمد رحمن کیلئے محمد رحمن علی

مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
وکیل صاحب کو رضی نامہ کرنے و تقرر ثالثہ فیصلہ پر حلف دینے جو جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور
بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ ارضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخ
نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور
کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ لے جانے بجائے تقرر کا اختیار
ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ
پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر چاہنا التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا
کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی
مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھدیا کہ سند ہے۔

Accepted and
ATTESTED
Hassan Ali

المرقوم _____ ماہ _____ 20

العبد _____ واہ العبد _____

کے لئے منظور ہے۔

بمقام

Accepted and
ATTESTED
Khanda

(Signature)
محمد رحمن